



Australian Government

اسلام ہراسی (اسلاموفوبیا) کا تدارک

اسلاموفوبیا پر خصوصی ایلچی کے قومی ردعمل پر آسٹریلوی حکومت کا ردعمل

'آسٹریلیا میں نفرت اور تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لئے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔'

- آسٹریلوی مسلمانوں نے آسٹریلیا کی سماجی، معاشی اور ثقافتی زندگی میں دیرینہ کردار ادا کیا ہے۔ مسلمان یہاں یورپی آبادکاری سے بھی پہلے سے موجود ہیں۔
- مسلم کمیونٹیز نے آسٹریلیا کے لیے ناقابل تردید خدمات سرانجام دی ہیں۔ تاہم، آسٹریلوی مسلمان بدستور خوف، غلط معلومات اور تاریخی تعصبات کی وجہ سے تعصب اور شکوک و شبہات کا سامنا کر رہے ہیں۔
- مسلمانوں کے خلاف نفرت سماجی ہم آہنگی کو کمزور کرتی ہے اور پوری کمیونٹی کو نقصان پہنچاتی ہے۔

آسٹریلوی حکومت کا ردعمل

- آسٹریلوی حکومت، اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے آسٹریلیا کے خصوصی ایلچی جناب آفتاب ملک کا انکی رپورٹ بعنوان 'اسلاموفوبیا کے خلاف قومی ردعمل: شمولیت، تحفظ اور خوشحالی کے لیے ایک اسٹریٹجک فریم ورک (National Response to Islamophobia)' پر شکریہ ادا کرتی ہے۔ حکومت آسٹریلیا اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے جناب ملک کی مسلسل کوششوں پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔
- حکومت نئے اقدامات پر مشتمل ایک جامع حکومتی پیکیج کے ذریعے ان سفارشات کا جواب دے رہی ہے۔ یہ اقدامات اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت سے نمٹنے کے لیے پوری حکومت کے موجودہ کام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔
- خصوصی ایلچی کے 'اسلاموفوبیا کے خلاف قومی ردعمل' میں شامل چار کلیدی موضوعات کے مطابق حکومت درج ذیل اقدامات پر عمل درآمد کرے گی:

تعلیم اور آگاہی

- اسلاموفوبیا سے متعلق تعلیمی ٹاسک فورس اور سماجی ہم آہنگی کی تعلیم لے لینے ایک مستقل مشاورتی کونسل کا قیام
- نسلی اور مذہبی رواداری کو مضبوط بنانے کے مواقع کی نشاندہی کے لیے آسٹریلوی تعلیمی نصاب کا جائزہ لینا
- اسکولوں کے لیے سماجی ہم آہنگی کے ایک فریم ورک کی تشکیل
- آسٹریلوی مسلمانوں کے امور پر ایک تحقیقی ادارے کا قیام
- اراکین پارلیمنٹ، آسٹریلوی پبلک سروس، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، نیز انصاف اور قانونی شعبے سے وابستہ پیشہ ور افراد کے لیے تربیت اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے فروغ کے لئے وسائل کی تیار ی۔

تحفظ اور تعاون

- مسلم کمیونٹی کی تنظیموں کو فلاح و بہبود اور ثابت قدمی (resilience) بڑھانے کے اقدامات میں مدد کے لیے 'پرائمری ہیلتھ نیٹ ورکس' (Primary Health Networks) کو مخصوص فنڈنگ کی فراہمی
- مسلم خواتین، نوجوانوں اور مسلم تنظیموں کی شرکت، قیادت اور صلاحیت سازی میں معاونت کے لیے گرانٹس کی فراہمی۔

سماجی ہم آہنگی کا فروغ

- کھیل کے مقابلوں، کمیونٹی اور بین الثقافتی روابط کے پروگراموں، تخلیقی سرگرمیوں اور تعلیمی اقدامات میں معاونت کے لیے گرانٹس کی فراہمی۔

احتساب اور ذمہ داری

- آسٹریلین فیڈرل پولیس (AFP) کی کمیونٹی رابطہ ٹیموں کو وسعت دینا، بشمول ایک مواصلاتی پورٹل کا قیام
- AFP سماجی ہم آہنگی مشاورتی بورڈ کا قیام تا کہ نفرت پر مبنی جرائم اور سماجی ہم آہنگی کے چیلنجوں بشمول اسلاموفوبیا سے متعلق اعتماد، احتساب اور کمیونٹی سے باخبر ردعمل کو مضبوط بنایا جاسکے۔
- اقدامات کا یہ نیا پیکج اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے جاری ایک پائیدار، طویل مدتی کوششوں کا حصہ جو متعدد سفارشات پر پیش رفت کو آگے بڑھاتا ہے۔ آسٹریلوی حکومت، خصوصی ایلچی اور آسٹریلوی مسلم کمیونٹی کے ساتھ مل کر باقی ماندہ سفارشات پر کام جاری رکھے گی۔

ہر کوئی مدد کر سکتا ہے

- اسلاموفوبیا کا تدارک ایک مشترکہ قومی ذمہ داری ہے۔
- اگر آپ نفرت، نسل پرستی یا تعصب کا سامنا یا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، آواز اٹھائیں اور اس کی رپورٹ کریں۔ رپورٹ کرنے سے آپ اس رویے کو جاری رہنے یا بڑھنے سے روکنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، آپ ہمارے معاشرے سے نفرت، نسل پرستی اور تعصب کو ختم کرنے کی ایک بڑی تحریک کا حصہ بھی بن جاتے ہیں۔
- ہنگامی یا جان لیوا صورت حال میں، ٹریپل زیرو (000) پر کال کریں اور پولیس کو طلب کریں۔ اگر کوئی فوری خطرہ نہ ہو تو 'پولیس اسسٹنس لائن' (131 444) پر کال کریں یا 'کرائم سٹاپرز' (1800 333 000) کے ذریعے گمنام طور پر رپورٹ کریں۔
- نفرت پر مبنی واقعات کی رپورٹنگ سے حکام کو مقامی علاقوں میں رویوں کے رجحانات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، تا کہ وہ سب کے لیے ایک محفوظ تر معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ نفرت پر مبنی جرم یا واقعے کی رپورٹنگ کے بارے میں مزید معلومات، نیز متاثرین کے لیے امدادی خدمات کے رابطے کی تفصیلات وزارت امور داخلہ (Department of Home Affairs) کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں: نفرت کا تدارک
- اگر آپ نے نفرت پر مبنی کسی جرم کا مشاہدہ کیا ہے یا آپ کو اس کا شبہ ہے، تو 24 گھنٹے فعال 'نیشنل سیکورٹی ہاٹ لائن' 1800 123 400 پر کال کریں۔

معاون خدمات

- تکلیف دہ واقعات یا تجربات شدید نفسیاتی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، لہذا ضرورت کے وقت معاونت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ذہنی پریشانی یا تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں، تو آپ کسی بھی وقت 'لائف لائن' (Lifeline) سے 13 11 14 پر کال کر کے، 0477 13 11 14 پر ٹیکسٹ (پیغام) بھیج کر، یا 'لائف لائن کرائسس چیٹ سروس' (Lifeline Crisis Chat) کے ذریعے مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔

'ہر آسٹریلوی باشندے کو، بلا تفریق نسل یا مذہب، آسٹریلیا میں بغیر کسی تعصب یا امتیازی سلوک کے خود کو محفوظ، خوش آمدید اور معاشرے کا حصہ محسوس کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔'